



سوال

(165) نماز جنازہ مسجد کے صحن میں پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز جنازہ مسجد کے صحن میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز جنازہ مسجد میں جائز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد میں پڑھا گیا۔ واللہ اعلم
تشریح: ... ازروائے حدیث صحیح کے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز و درست ہے۔ منتقٰی الاخبار میں ہے:

عن عائشۃ انھا قالت لما توفی سعد بن ابی وقاص قالت ادخلوا بہ المسجد حتی اصلى علیہ فانکروا ذلک علیھا فقالت لقد صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بنی یسنا فی المسجد سخیل وانہیہ رواہ مسلم
وفی روایت ماصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سخیل بن البضاء الا فی جوف المسجد رواہ الجماعة البخاری

اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ کی نماز مسجد میں ہی پڑھی گئی
تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ مسجد میں نماز جنازہ کے درست اور جائز ہونے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کالجماع و اتفاق تھا، فتح الباری میں ہے۔

وقد روی ابن ابی شیبۃ وغیرہ ان عمر صلی علی ابی بکر فی المسجد وان یحبھا صلی علی عمر فی المسجد وفی روایہ ووضعت الجنازۃ فی المسجد تجاہ المنبر وهذا یقتضی الاجماع علی جواز ذلک الخ (حررہ محمد
یوسف عفی عنہ، سید نذیر حسین، فتاویٰ نذیریہ ج ۱ ص ۲۰۳)

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02

محدث فتویٰ